



کائنات حفیظ کے شاندار 82 رنز نے پی سی بی بلاسٹرز کو فتح دلادی

• سنسنی خیز مقابلے کے بعد چیلنجرز کو 1 وکٹ سے شکست

لاہور، 17 ستمبر 2019ء:

قومی ٹرائنگولر ایک روزہ خواتین چیمپئن شپ کے افتتاحی میچ میں پی سی بی بلاسٹرز نے پی سی بی چیلنجرز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ لاہور جمخانہ کلب گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے میچ میں پی سی بی بلاسٹرز کی جانب سے کائنات حفیظ نے شاندار 82 رنز بنائے پی سی بی چیلنجرز کی جانب سے سعدیہ اقبال کی 27 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کرنا رائیگاں رہا۔

میچ میں فاتح ٹیم کی جانب سے کائنات حفیظ نے 82 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے 92 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 89.13 کی اوسط سے رنز بنائے۔ کائنات حفیظ کی اننگز میں 11 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ اوپنر عائشہ ظفر 25 اور آلراؤنڈر عالیہ ریاض 23 رنز بنا کر نمایاں رہیں جبکہ کپتان رامین شمیم نے آخری اوورز میں زمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ناقابل شکست 20 رنز بنا کر ٹیم کو فتح دلادی۔ پی سی بی چیلنجرز کی جانب سے سعدیہ اقبال نے 10 اوورز میں 27 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حفصہ امجد نے 10 اوورز میں 30 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اس سے قبل پی سی بی چیلنجرز کی کپتان بسمعہ معروف نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ ٹیم کی دونوں اوپنرز 12 رنز کے مجموعی اسکور پر پویلین واپس لوٹ گئیں۔ کپتان بسمعہ معروف بھی حریف باؤلرز کے سامنے زیادہ مزاحمت نہ کر سکیں۔ وہ 33 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئیں۔ ان کی اننگز میں 4 چوکے شامل تھے۔ لوئر آرڈر پر بیٹنگ کرتے ہوئے ارم جاوید نے 32 نتالیہ پرویز نے 29 اور ڈیانا بیگ نے 27 رنز بنائے۔ پی سی بی بلاسٹرز کی جانب سے عالیہ ریاض نے 10 اوورز میں 41 رنز دے

کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ الماس اکرم، طوبہ حسن اور نشرہ سندھو نے 1،1 کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔

ایونٹ کا دوسرا میچ 18 ستمبر کو پی سی بی بلاسٹرز اور پی سی بی ڈائنمائٹس کے درمیان کھیلا جائے گا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk

@therealpcb

@PakistanCricketBoard

@PakistanCricketOfficial

@therealpcb

PCB Headquarters

Gaddafi Stadium

Ferozpur Road, Lahore

Pakistan, PO Box 54000

T: +92 42 3571 7231-4